

## محاورات

لغت کی رو سے محاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں مگر اہل زبان کی اصطلاح میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ”لغوی معنوں“ کے بجائے ”مجازی معنوں“ میں استعمال ہو یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔

نمبر شمار	محاورات
۱	بول بالا ہونا
۲	تصویر بن جانا
۳	حشر اٹھانا
۴	دامن چھڑنا
۵	پنچے جھاڑ کر پیچھے پڑنا
۶	چل بسانا
۷	داغ نیل ڈالنا
۸	پھول چننا
۹	چاند پر تھوکننا
۱۰	جوئے شیر لانا

نوٹ۔ ٹیکسٹ بک کی پڑھائی کے دوران محاورات کی نشاندہی کروائی جائے۔

## ضرب الامثال

ضرب الامثال کے معنی ہیں ”کہاوت“ جبکہ اسے انگریزی میں (Proverb) کہتے ہیں۔ ضرب الامثال اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے مگر اس کا مطلب بہت وسیع اور مفصل ہوتا ہے۔ ضرب الامثال انسان کے بہترین یا تلخ تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے۔ محاورات کی طرح ضرب الامثال کے الفاظ بھی اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں۔

ضرب الامثال	نمبر شمار
آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل	۱
انڈے سیوئے فاختہ کو امیوہ کھائے	۲
دام بنائے کام	۳
آگے دوڑ پیچھے چھوڑ	۴
ایک سے دو بھلے	۵
آگ کو آگ مارتی ہے	۶
اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے	۷
اوکھلی میں دیا سر تو موسلوں کا ڈر	۸
اول کام بعد دوام	۹
اول خویش بعد درویش	۱۰

نوٹ۔ ٹیکسٹ بک کی پڑھائی کے دوران ضرب الامثال کی نشاندہی کروائی جائے۔